

## کیا آپ نے حال ہی میں اپنا میل باکس چیک کیا ہے؟ ووٹر نوٹس بھیج دیے گئے ہیں!

برامپٹن، آن - اگر آپ برامپٹن میونسپل الیکشن میں ایک اہل ووٹر ہیں، تو یقینی بنائیں کہ آپ نے کینیڈا پوسٹ کی جانب سے آپ کو ڈیلیور کیے گئے ووٹر نوٹس کو چیک کر لیا ہے۔ موجودہ طور پر ووٹرز لسٹ میں موجود تمام لوگوں کو ووٹر نوٹس بذریعہ ڈاک بھجوانے جا چکے ہیں۔ ایک خاکی رنگ کے لفافے میں الیکشن کے بارے میں معلومات اور ووٹر نوٹس ہر ووٹر کے پتہ پر بھجوا دیے گئے ہیں، جو ابھی راستے میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو بہت جلد موصول ہو جانے چاہیں۔

ووٹر نوٹس ایک اہم دستاویز ہوتی ہے۔ ووٹرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب وہ اکتوبر کے مہینے میں ووٹ ڈالنے جائیں، تو یہ ووٹر نوٹس اور اپنی ایک عدد شناختی دستاویز اپنے ہمراہ لے کر جائیں۔

### کیا آپ کو ووٹر نوٹس نہیں ملا؟

اگر آپ کو ووٹر نوٹس نہیں ملا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام ووٹرز لسٹ میں موجود نہ ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ کا نام ووٹرز لسٹ میں موجود ہے یا نہیں، براہ کرم [سٹی کی ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

آپ [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر جا کر اپنی معلومات کی تجدید کر سکتے ہیں یا ووٹرز لسٹ میں اپنا نام شامل کرنے کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ ووٹرز لسٹ میں تجدید اور رجسٹریشن کا عمل مورخہ 13 اکتوبر، بوقت رات 11:59 تک جاری رہے گا۔

### کیا میں ووٹر نوٹس کے بغیر بھی ووٹ ڈال سکتا/سکتی ہوں؟

جی ہاں، مگر اپنے ساتھ کوئی ایسی شناختی دستاویز ضرور لے کر جائیں جس پر آپ کا نام اور برامپٹن کا ایسا پتہ موجود ہو جو آپ کو ووٹ دینے کا اہل بناتا ہو۔ اگر آپ کا نام ووٹرز لسٹ میں موجود نہ ہو، تو ووٹنگ کے مقام پر بھی آپ کا نام فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

### کب اور کہاں ووٹ دینا ہے؟

پیشگی ووٹنگ کی سہولت 2 - 4، 6، 9 - 11 اور 13 اکتوبر کو دستیاب ہو گی۔ پیشگی ووٹنگ کے لیے اپنا قریب ترین مقام تلاش کرنے کے لیے [یہاں](#) پر کلک کریں۔

ووٹنگ کا دن مورخہ 22 اکتوبر ہے۔ اس دن، آپ اپنے وارڈ میں موجود کسی بھی مقام سے ووٹ دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے وارڈ میں موجود ووٹ دینے کے مقامات کی فہرست [یہاں](#) سے حاصل کر سکتے ہیں۔

### ووٹ دینے کے مقام پر خود نہیں جا سکتے؟

آپ کسی اور اہل ووٹر کو اپنی جانب سے ووٹ دینے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں (مثلاً کوئی دوست یا فیملی ممبر)۔ آپ کی جگہ پر ووٹ ڈالنے والے شخص کے لیے لازمی ہے کہ وہ برامپٹن سٹی ہال میں ووٹنگ پراکسی فارم کو مکمل کرے کر کے جمع کرائے۔ پراکسی فارم، سٹی کلرک کے آفس سے رابطہ کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کسی اور شخص کی جانب سے ووٹ دینے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے [یہاں](#) پر کلک کریں۔

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

نتالی سٹوگڈیل  
میڈیا ریلیشنز  
سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654